

3 مارچ، 2020  
 عزیزی اہلی خانہ،

نیو یارک شہر محکمہ صحت اور دماغی حفظان صحت نے نیو یارک شہر میں مشہور کرونا وائرس (COVID- 19) کے پہلے کیس کی تصدیق کر دی ہے۔ جبکہ ہم سب یہ امید کر رہے تھے کہ یہ لمحہ نہیں آئے گا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے شہر نے احتیاط کے ساتھ تیاری کی تھی۔ اس وقت، حقائق کو سننا اور خوف سے ردعمل نہ کرنا اہم ہے۔ ہمارے تصدیق شدہ پہلے کیس کے باوجود نیو یارک کے باشندے اس وائرس سے بیمار ہونے کے کم خطرے میں ہیں۔

ہمارے طلباء کی صحت اور حفاظت مسلسل ہماری اولین ترجیح رہے گی۔ جیسے ہم صورت حال کی نگرانی کر رہے ہیں، ہم مخصوص طریقوں کو بہتر بنا رہے ہیں اور اضافی وسائل فراہم کریں گے بشمول:

- ہر اسکول کو CDC کے منظور کردہ صفائی کرنے کی اشیا فراہم کی جائیں گی۔
- یہ یقینی بنانا کہ تمام بیت الخلا میں صابن اور پیپر ٹاولز مسلسل دستیاب ہیں، اور طلباء اور عملے کی اکثر ہاتھ دھونے کی حوصلہ افزائی کرنا۔
- اس بات کو یقینی بنانا کہ پرنسپل اور اسکول نرسوں کے لیے وہ وسیلے اور رہنمائی دستیاب ہوں جو اسکول میں ظاہر ہونے والی علامات کی نشان دہی کرنے اور اس کی اطلاع دینے کے لیے ضروری ہیں۔

محکمہ صحت کے ساتھ مل کر کام کر کے، ہم صورت حال کے بتدریج تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے طریقوں میں تجدید کرنا جاری رکھیں گے، اور والدین اور ہمارے اسکول کی برادری کو ممکنہ طور پر متاثر ہونے کے بارے میں معلومات فراہم کرتے رہیں گے۔ ہم اپنی تمام تازہ ترین معلومات کو ہماری ویب سائٹ [schools.nyc.gov/coronavirus](https://schools.nyc.gov/coronavirus) پر شائع کریں گے۔

اس وقت اسکولوں کو بند کرنے کے کوئی منصوبہ نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسا شدید اقدام ہو گا جو کہ روز مرہ زندگی میں خلل ڈالے گا اور اس کا نفاذ کرنے کا فیصلہ صرف عوامی صحت کے ماہرین کی ہدایات پر کیا جائے گا۔ بطور یاد دہانی، نیو یارک شہر کے تمام مکینوں کو وائرس کی انفیکشن سے اجتناب کرنے کے عام طریقوں کے اقدامات پر عمل کرنا اہم ہے بشمول:

- اپنی کھانسی یا چھینک کو ایک ٹشو یا آستین سے ڈھانکیں
- اپنے ہاتھوں کو وقتاً فوقتاً دھوئے رہیں
- اپنے چہرے کو چھونے سے اجتناب کریں
- جو افراد بیمار ہیں ان کے قریب جانے سے اجتناب کریں
- اپنے فلو کا ٹیکہ لگوائیں۔ اس کے لیے دیر نہیں ہوئی ہے
- اگر آپ بیمار محسوس کر رہے ہیں تو گھر پر رہیں۔ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور ان کو اپنی علامات اور سفر کے بارے میں بتائیں۔

ہم یہ یقینی بنانے کے لیے کہ پرنسپلوں کے پاس تازہ ترین معلومات ہیں اور یہ کسی بھی سوال کا جواب دے سکیں، ہم ان کے ساتھ براہ راست اور معمول میں ابلاغ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ، ہم تمام خاندانوں کی یاد دہانی کروانا چاہتے ہیں کہ یہ NYC اسکولز اکاؤنٹ کے لیے سائن اپ کر کے اس موضوع اور کئی دوسرے موضوعات پر معمول میں تازہ ترین خبریں موصول کرتے رہیں گے۔ ایک اکاؤنٹ بنانے اور ہنگامی صورت میں اپنے رابطے کی معلومات تازہ ترین بنانے کے لیے براہ کرم <https://mystudent.nyc.gov> پر جائیں۔

مزید معلومات کے لیے براہ کرم اس خط کے ساتھ منسلک اکثر اوقات پوچھے جانے والے سوالات کی شیٹ (صرف انگریزی میں) کو پڑھیں، یا اہم خبروں کے لیے [nyc.gov/coronavirus](https://nyc.gov/coronavirus) پر جائیں۔

ہمارے طلباء کی صحت اور حفاظت بدستور ہماری اولین ترجیح ہے، اور ہم رہنمائیوں کی پابندی کریں گے اور مطابقت کے ساتھ تمام معقول اقدامات کریں گے۔

بخلوص،



Richard A. Carranza

چانسلر  
 نیو یارک شہر محکمہ تعلیم